



Noble Quran

الْقُرْآن الْحَكِيمُ

Urdu Translation (Shah Abdul Qadir)

(حضرت شاہ عبدالقدیر) اردو ترجمہ بمعنی عربی

سورة الشوریٰ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حم

لحم-

عَسْقَ

عسق۔

كَذَلِكَ يُوحَى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ أَللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

اسی طرح و حی بھیجتا ہے تیری طرف اور تجھ سے پہلوں کی طرف، اللہ زبردست حکمت والا۔

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ^{صَلَّى}

اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

اور وہی ہے سب سے اوپر بڑا۔

.1

.2

.3

.4

.5

تَكَادُ الْسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ^ج

قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں (انکے شرک کی بناء پر) اور سے

وَالْمَلِئَكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنِ فِي الْأَرْضِ

اور (حال انکہ) فرشتے پا کی بولتے (تبیح کرتے) ہیں خوبیاں اپنے رب کی، اور گناہ بخشوختے ہیں زمین والوں کے۔

الَّا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

ستا ہے (آگاہ رہو) وہی ہے معاف کرنے والا مہربان۔

وَالَّذِينَ أَنْجَلُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلَيَاً اللَّهِ حَفِظُ عَلَيْهِمْ

اور جنہوں نے پکڑے (بنار کھے) ہیں اس کے سوار فیق، اللہ کو وہ یاد (نگاہ میں) ہیں۔

وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ

اور تجھ پر نہیں ان کا ذمہ،

وَكَذَلِكَ أُوحِيَنَا إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَبَى وَمَنْ حَوْلَهَا

.7

اور اسی طرح اتارا ہم نے تجھ پر قرآن عربی زبان کا، کہ تو ڈر سنائے بڑے گاؤں کو اور آس پاس والوں کو،

وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمِيعِ لَا رَيْبٌ فِيهِ^ج

اور خبر سنائے جمع ہونے کے دن کی۔ اس میں دھوکا (شک) نہیں۔

فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعَيْرِ

(اس روز جانا ہے) ایک فرقہ (گروہ) بہشت میں، اور ایک فرقہ (گروہ) آگ (دوزخ) میں۔

.8

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنِ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ^ج

اور اگر چاہتا اللہ، تو سب لوگوں کو کرتا ایک ہی فرقہ۔ پر وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہے اپنی مہر (رحمت) میں۔

وَالظَّالِمُونَ مَا هُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

اور گئھگار جو ہیں، ان کا کوئی نہیں رفیق نہ مددگار۔

.9

أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ

کیا انہوں نے پکڑے ہیں اس سے ورنے (علادہ) کام بنانے والے؟

فَاللَّهُ هُوَ الْأَوَّلُ

سوال اللہ جو ہے، سو وہی ہے کام بنانے والا

وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اور وہی جلاتا (زندہ کرتا) ہے مردے اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔

.10

وَمَا أَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ^ج

اور جس بات میں پھولے (اختلاف کرتے) ہوتا لوگ، کوئی چیز ہو اسکی چکوتی (اختیار) ہے اللہ پر حوالہ۔

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّيْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

وہ اللہ ہے رب میرا، اسی پر مجھ کو بھروسہ، اور اسی کی طرف میری رجوع۔

.11

فَاطِرُ الْسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

(وہی ہے) بنانکالنے (پیدا کرنے) والا آسمان کا اور زمین کا۔

جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعُمِ أَرْوَاجًا

بنادیئے تم ہی میں سے جوڑے، اور چوپا یوں میں سے جوڑے۔

يَدُ رَوْكُمْ فِيهِ

بکھیرتا (پھیلاتا) ہے تم کو اسی طرح۔

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

نہیں اس کی طرح کا ساکوئی۔ اور وہی ہے سنتادیکھتا۔

لَهُ مَقَالِيدُ الْسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اس پاس ہیں کنجیاں آسمانوں اور زمین (کے خزانوں) کی۔

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِيرُ

پھیلا (کھول) دیتا ہے روزی جس کو چاہے، اور ماپ (نیپٹلا) دیتا ہے (جس کو چاہے)۔

إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّيْ بِهِ نُوحًا

راہ ڈال دی تم کو دین میں، وہی جو کہہ دیا تھا نوح کو،

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ

اور حکم (وہی) بھیجا (ہے اے محمد) ہم نے تیری طرف،

.12

.13

وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى
صل

اور وہ جو کہہ دیا ہم نے ابراہیم کو، اور موسیٰ کو، عیسیٰ کو،

أَنْ أَقِيمُوا أُلُّدِينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ
ج

یہ کہ قائم رکھو دین اور پھوٹ نہ ڈالوں میں۔

كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَذْغِيْهُمْ إِلَيْهِ
ج

بھاری پڑتا ہے شریک والوں کو، جس طرف تو بلا تا ہے ان کو۔

اللَّهُ يَعْلَمُ إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَعْلَمُ إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہے۔ اور راہ دیتا ہے اپنی طرف اس کو جو رجوع لائے،

وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ
ج

اور پھوٹ جو ڈالی (فرقوں میں بٹے)، سو سمجھ آچکے پیچھے، آپس کی ضد سے۔

وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجْلٍ مُّسَمٍّ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ
ج

اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو نکل گئی ہے تیرے رب سے ایک ٹھہرے وعدے تک توفیصلہ ہو جاتا ان میں۔

وَإِنَّ الَّذِينَ أُولَئِنُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٌ

اور جن کو ہاتھ لگی ہے کتاب ان کے پیچھے، وہ دھوکے میں ہیں اس سے، جو چیز نہیں دیتا۔

فَلِذَّ لِكَ فَأَذْعُ
صل

سو تو (اے محمد) اُسی طرف (لوگوں کو) بلا۔

.14

.15

وَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ^ص

اور قائم رہ جیسا فرمادیا۔ اور نہ چل ان کے چاؤں (خواہشات) پر۔

وَقُلْ إِنَّمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ^ص

اور کہہ، میں یقین لایا ہر کتاب پر جو اتاری اللہ نے۔

وَأُمِرْتُ إِلَيْكُمْ عِدْلًا بَيْنَكُمْ^ص

اور مجھ کو حکم ہے انصاف کروں تمہارے بیچ۔

اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ^ص

اللہ (ہی) رب ہے ہمارا اور تمہارا۔

لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ^ص

ہم کو ملنے ہیں ہمارے کام، اور تم کو تمہارے کام۔

لَا حَجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ^ص

کچھ جھگڑا نہیں ہم میں اور تم میں۔

اللَّهُ يَعْلَمُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ^ص

اللہ اکٹھا کرے گا ہم سب کو اور اسی کی طرف پھر (لوٹ کر) جانا ہے۔

وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا أُسْتُرْجِيَتْ لَهُ حَجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ^ص

اور جو لوگ ڈالتے (جھگڑتے) ہیں اللہ کی بات میں، جب خلق (خلوق) اس کو مان چکی،

ان کا جھگڑا ڈگ رہا (باطل) ہے ان کے رب کے ہاں،

وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

اور ان پر (اللہ کا) غصہ ہے، اور ان کو سخت مار ہے۔

اللَّهُ أَللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
اللَّهُمَّ أَنْزَلْتَ الْكِتَابَ بِالْحُقْقِ وَالْمِيزَانَ

اللہ وہ ہے جس نے اتاری کتاب سچے دین پر، اور (عدل و انصاف کی) ترازو۔

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ

اور تجھ کو کیا خبر ہے شاید وہ گھٹری پاس ہو۔

يَسْتَعِجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا

شتابی (جلدی) کرتے ہیں اسکی جو یقین نہیں رکھتے اس پر۔

وَالَّذِينَ إِيمَنُوا أَمْشِفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا أَلْحَقُّ

اور جو یقین رکھتے ہیں ان کو اس کا ذر ہے، اور جانتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے۔

أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَاءِلُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ

ستا ہے جو لوگ جھگڑتے ہیں اس گھٹری کے آنے میں، وہ بہکے ہیں صرتح۔

اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ

اللہ نرمی رکھتا ہے اپنے بندوں پر، روزی دیتا ہے جس کو چاہے۔

وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ

اور وہ ہے زور آور زبردست۔

.17

.18

.19

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْأَخْرَةِ نَزِدُهُ فِي حَرْثِهِ^{صَلَوةً}

جو کوئی چاہتا ہو آخرت کی کھیتی، بڑھادیں ہم اس کی کھیتی۔

وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْأَخْرَةِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْأَخْرَةِ مِنْ نَصِيبٍ

اور جو کوئی ہو چاہتا نیا کی کھیتی، اس کو دیں ہم اس میں سے، اور اس کو نہیں آخرت میں پچھھ حصہ۔

أَمْ لَهُمْ شَرْكٌ بِّإِشْرَاعِ أَهْمَمِ مِنَ الْأَدِينِ مَا لَمْ يَأْذِنْ بِهِ اللَّهُ

کیا ان کے اور شریک ہیں جو راہ ڈالی ہے انہوں نے ان کے واسطے دین کی جس کا حکم نہیں دیا اللہ نے؟

وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفُصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ^{ظَلَمًا}

اور اگر نہ ہوتی بات فیصلہ کی (ظ شدہ) تو فیصلہ ہو جاتا ان میں۔

وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

اور بیشک جو گنہ گار ہیں ان کو دکھ کی مار (عذاب) ہے۔

تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ لِمَا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ^{ظَلَمًا}

تو دیکھے (کا) گنہ گار ڈرتے ہوں گے اپنی کمائی سے، اور وہ پڑنا ہے ان پر۔

وَالَّذِينَ إِيمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ^{صَلَوةً}

اور جو یقین لائے، اور بھلے کام کئے با غou میں ہیں بہشت کے۔

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ إِنَّ رَبَّهُمْ

ان کو (کے لئے) ہے جو چاہیں اپنے رب کے پاس۔

ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ

یہی ہے بڑی بزرگی (بڑا فضل)۔

ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادُهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

یہ خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے ایماندار بندوں کو جو کرتے ہیں بھلے کام۔

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةُ فِي الْقُرْبَىٰ

تو کہہ، میں مانگتا نہیں تم سے اس پر کچھ نیگ (اجر) مگر دوستی چاہیے (محبت ہو) ناتے (قرابت داروں) میں۔

وَمَن يَقْتَرِفُ حَسَنَةً تَزِدُّ لَهُ فِيهَا حَسَنَةٌ

اور جو کوئی کمائے گا نیکی، ہم اس کو بڑھادیں گے اس کی خوبی۔

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ

بیشک اللہ معاف کرتا ہے حق مانتا۔

أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا صَلَوة

کیا کہتے ہیں اس نے باندھا اللہ پر جھوٹ (بہتان اللہ پر)؟

فَإِن يَشَاءُ اللَّهُ يَخْتِمُ عَلَى قَلْبِكَ

سو اگر اللہ چاہے مہر کر دے تیرے دل پر۔

وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَطِلَ وَيُحَقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ

اور مٹا دے اللہ جھوٹ کو، اور ثابت کرتا ہے حق کو اپنی باتوں سے۔

.23

.24

إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الْصَّدْوِ

اس کو معلوم ہے جو دلوں میں ہے۔

.25

وَهُوَ الَّذِي يَقْبُلُ التَّوْبَةَ عَنِ عِبَادِهِ وَيَعْفُوُ عَنِ السَّيِّئَاتِ

اور وہی ہے جو قبول کرتا ہے تو بہ اپنے بندوں سے، اور معاف کرتا ہے برائیاں،

وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

اور جانتا ہے جو (تم) کرتے ہو۔

ج

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ

.26

اور دعا سنتا ہے ایمان والوں کی، جو بھلے کام کرتے ہیں، اور بڑھتی (زیادہ) دیتا ہے ان کو اپنے فضل سے۔

وَالْكَفِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

اور جو منکر ہیں، ان کو سخت مار ہے۔

ح

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدِيرٍ مَا يَشَاءُ

.27

اور اگر پھیلادے (دیتا) اللہ روزی اپنے بندوں کو تودھوم (سرکشی) اٹھائیں ملک میں،

پر اتارتامپ کر جتنی چاہتا ہے۔

إِنَّهُ يُعِبَادِهِ خَبِيرٌ بِصِدْرٍ

بیشک وہ اپنے بندوں کی خبر کھتاتا ہے، دیکھتا۔

ج

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواً وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ

اور وہی ہے جو اتارتا ہے مینہ، پچھے اس سے کہ آس توڑچکے، اور پھیلاتا ہے اپنی مہر (رحمت)،

وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ

اور وہی ہے کام بنانے والا خوبیوں سراہا۔

وَمِنْ أَيْتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَ فِيهِمَا مِنْ دَآبَةٍ

اور ایک اس کی نشانی ہے بنانا آسمانوں کا اور زمین کا، اور جتنے بکھیرے ہیں ان میں جانور۔

وَهُوَ عَلَى جَمِيعِهِمْ إِذَا أَيْشَأَ قَدِيرٌ

اور وہ جب چاہے ان سب کو اکھٹا کر سکتا ہے۔

وَمَا أَصَبَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُ أَيُّدِيْكُمْ

اور جو پڑے تم پر کوئی سختی، سو بدله اس کا جو کمایا تمہارے ہاتھوں نے،

وَيَعْفُوُ عَنِ كَثِيرٍ

اور (گناہ تو) معاف کرتا ہے بہت۔

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ

تم تھکانے والے نہیں (اللہ کو) بھاگ کر زمین میں۔

وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

اور کوئی نہیں تم کو اللہ کے سوا کام بنانے والا، نہ مددگار۔

.32

وَمِنْ ءَايَتِهِ الْجُواِرِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَمِ

اور ایک اس کی نشانی ہے چلتے جہاز دریا میں، جیسے پہاڑ۔

.33

إِنَّ يَشَاءُ يُسْكِنُ الْرِّيحَ فَيَظْلَلُنَّ رَوَادَةَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ

اگر چاہے تھام دے باو (ہوا)، پھر رہ جائیں سارے دن ٹھہرے اس کی پیٹھ پر۔

إِنَّ فِي ذِلِّ لَأَيْتٍ لِكُلِّ صَبَابٍ شَكُورٍ

مقرر (بلاشبہ) اس میں پتے (نشانیاں) ہیں ہر ٹھہرے (صبراً اور شکر کرنے) والے کو جو حق مانے۔

.34

أَوْ يُوبَقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا أَوْ يَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ

یاتاہ کر دے ان کو ان کی کمائی سے، اور معاف بھی کرے بہتوں کو۔

.35

وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَدِّلُونَ فِي ءَايَتِنَا مَا هُمْ قِنْ تَحِيقِ

اور جان لیں جو جھگڑتے ہیں ہماری قدر توں میں کہ نہیں ان کو بھاگے کی جگہ (جائے پناہ)۔

.36

فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الْأَلْدُنْبِيَا

سوجہ ملا ہے تم کو کچھ چیز ہو، سوبرتنا ہے دنیا کے جیتے۔

وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى

اور جو اللہ کے ہاں بہتر ہے اور رہنے والا

لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

(یعنی) واسطے ایمان والوں کے جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

وَاللَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرًا إِلَّا ثُمَّ وَالْفَوَاحِشَ

اور جو بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے

وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ

اور جب غصہ آئے وہ معاف کرتے ہیں۔

وَاللَّذِينَ أَسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ

اور جنہوں نے حکم مانا اپنے رب کا اور کھڑی (قائم) کی نماز۔

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

اور ان کا کام ہے مشورہ سے آپس کے۔

وَهِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

اور ہمارا دیا کچھ خرچ کرتے ہیں۔

وَاللَّذِينَ إِذَا آتَأْصَابُهُمْ الْبُعْدُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ

اور وہ لوگ کہ جب ہوئے ان پر چڑھائی تو وہ (مناسب) بدله لیتے ہیں۔

وَجَزَاءً وَأُسَيْئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا

اور بُرائی کا بدله بُرائی ولیسی ہے۔

فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ

پھر جو کوئی معاف کرے اور سنوارے، سواس کا ثواب ہے اللہ کے ذمے،

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

بیشک اس کو خوش (پسند) نہیں آتے گنہگار۔

وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّن سَبِيلٍ

جو کوئی بدلہ لے اپنے ظلم پر سوان پر بھی نہیں الہنا (پکڑ)۔

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يُظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحُقْقِ

الاہنا (پکڑ) تو ان پر، جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر اور دھوم اٹھاتے (زیادتی کرتے) ہیں ملک میں ناحق۔

أُولَئِكَ هُمُ عَذَابُ الْآيِمْ

ان لوگوں کو ہے ذکھ کی مار۔

وَلَمَنِ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

اور البتہ جس نے سہا اور معاف کیا، بیشک یہ کام ہمت کے ہیں۔

فَلَئِ

وَمَنْ يُضْمِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَليٌ مِّنْ بَعْدِهِ

اور جس کو راہ نہ دے اللہ، تو کوئی نہیں اس کا کام بنانے والا اس کے سوا۔

وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأُوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى امْرِ دِيْنِنَ سَبِيلٍ

اور تو دیکھے گنہگاروں کو جس وقت دیکھیں گے عذاب کہیں گے کسی طرح پھر (پلٹ) جانے کی بھی ہو گی کوئی راہ؟

وَتَرَ لَهُمْ يُعَرَضُونَ عَلَيْهَا حَشِيعَنَ مِنَ الْذُلُّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفِ خَفِيٍّ

اور تو دیکھے ان کو سامنے لائے گئے ہیں آگ کے، نوے (جھکلی) آنکھیں ذلت سے، دیکھتے ہیں چھپی نگاہ سے۔

.41

.42

.43

.44

.45

وَقَالَ الَّذِينَ ءاْمَنُوا إِنَّ الْحُسْرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

اور کہتے ہیں جو ایماندار تھے مقرر ٹوٹے (گھاٹے) والے
وہی ہیں جنہوں نے گنوائی اپنی جان اور اپنا گھر قیامت کے دن۔

أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ

شنتا ہے! گنہگار پڑے ہیں سدا کی مار میں۔

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أُولَيَاءِ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ ذُوْنِ اللَّهِ

.46 اور کوئی نہ ہوئے انکے حماستی جو مدد کرتے ان کی اللہ کے سوا۔

وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ

اور جس کو بھٹکائے اللہ اس کو کہیں نہیں راہ۔

أَسْتَجِيبُ لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ أَنْ لَهُ

.47 مانو اپنے رب کا حکم، اس سے پہلے کہ آئے ایک دن، جو پھر ناہیں اللہ کے ہاں سے۔

مَالُكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَ مِيْدِنٍ وَمَالُكُمْ مِنْ نَكِيرٍ

نہ ملے گا تم کو کوئی بچاؤ اس دن، اور نہ ملے گا لوپ (پوشیدہ) ہو جانا۔

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَنْزَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيقًا

.48 پھر اگر وہ ٹلادیں (منہ موڑیں) تو تجوہ کو نہیں بھیجا ہم نے ان پر نگہبان۔

إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا أَبْلَغُ

تیرا ذمہ یہی ہے پہنچا دینا۔

وَإِنَّا إِذَا أَذْقَنَا الْإِنْسَنَ رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا

اور ہم جب چکھاتے ہیں آدمی کو اپنی طرف سے مہر (رحمت)، اس پر ریجھتا (اترا) ہے

وَإِنْ تُصِّبْهُمْ سَيِّئَةً هُمَا قَدَّمُتُ أَيْدِيهِمْ

اور اگر پکھتی ہے ان کو کچھ بُرائی، بدله اپنی کمائی کا (تو سب احسانوں کو بھول جاتا ہے)،

فَإِنَّ الْإِنْسَنَ كَفُورٌ

تو (بیشک) انسان بڑا شکر ہے۔

اللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

.49

اللہ کا راج ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ

(وہ) پیدا کرتا ہے جو چاہے۔

يَهْبِ لِمَنْ يَشَاءُ إِنْ شَاءَ وَيَهْبِ لِمَنْ يَشَاءُ الَّذِي كُوَرَ

بخشا ہے جس کو چاہے بیٹیاں اور بخشا ہے جس کو چاہے بیٹے۔

أَوْ يُزَوِّدُ جُهَّمَ دُكَارَانًا وَإِنْ شَاءَ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا

.50

یا ان کو دیتا ہے جوڑے بیٹے اور بیٹیاں۔ اور کرتا ہے جس کو چاہے بانجھ۔

إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

وہ ہے سب جانتا کر سکتا۔

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ

اور کسی آدمی کی حد نہیں کہ اس سے باتیں کرے اللہ، مگر اشارے سے یا پردہ کے پیچھے سے،

أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحَىٰ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ

یا بھیجے کوئی پیغام لانے والا (فرشتہ)، پھر پہنچا دے اس کے حکم سے جو چاہے

إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٌ

(بلاشبہ) وہ سب سے اوپر ہے حکمتوں والا۔

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا

اور اسی طرح بھیجا ہم نے تیری طرف ایک فرشتہ اپنے حکم سے۔

مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَبُ وَلَا أَلِيمَنُ

تو نہ جانتا تھا کہ کیا ہے کتاب اور نہ ایمان،

وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا لَّهُدِّي بِهِ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا

پر ہم نے رکھی ہے یہ روشنی، اس سے راہ دیتے ہیں جس کو چاہیں اپنے بندوں میں۔

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

اور تو البتہ سُجھاتا ہے سیدھی راہ۔

صِرَاطٌ لِّلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

راہ اللہ کی، جس کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔

اَلْهٰى اللّٰهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ

ستا ہے! اللہ ہی تک پہنچ ہے کاموں کی۔

© Copy Rights:

Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana

Lahore, Pakistan

www.quran4u.com

Email:

quran4u_com@yahoo.com